

ادبی دماغی ورزشیں - سلسلہ (۷۷)

ڈاکٹر شمیم احمد صدیقی

C-2، نسیم منزل، مدح گنج، پولیس چوکی، سینٹا پور روڈ، لکھنؤ۔ 226020

- امام بخش ناسخ لکھنوی کے درج ذیل اشعار کو دئیے گئے اشاروں کی مدد سے مکمل کیجئے۔
- (۱) انسان کو سے کینہ نہیں اچھا جس سینے میں کینہ ہو وہ سینہ نہیں اچھا
- اشارہ: اوّل لفظ کو دوبارہ لکھیں۔
- (۲) تیری صورت سے کسی کی نہیں ملتی صورت ہم جہاں میں تری لیے پھرتے ہیں
- اشارہ: صورت کے آخری حرف کو اٹھا کر شروع میں رکھیں اور مناسب جگہ 'ی' کا اضافہ کریں۔
- (۳) دو ایک وضع پہ رنگ جہاں نہیں وہ کون سا چن ہے کہ جس کو خزاں نہیں
- اشارہ: گلاب کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟
- (۴) زندگی زندہ دلی کا ہے نام مُردہ دل جیا کرتے ہیں
- اشارہ: مٹی کو فارسی اور اردو میں خاک بھی کہتے ہیں۔
- (۵) کیوں فکرِ عمارت ہے میں تجھے ناسخ ویرانے میں گھر کوئی تعمیر نہیں کرتا
- اشارہ: دنیا میں انسان کی ہر خواہش پوری نہیں ہوتی۔
- (۶) کیوں جنازے کو اٹھا کر سب نے شرمندہ کیا ایک کے دل پر نہ جیتے جی ہوتے تھے ہم
- اشارہ: وزن یا بوجھ کو فارسی اور اردو میں بار بھی کہتے ہیں۔
- (۷) لاکھ کافر کو کیا تو نے ناسخ ہے یہ افسوس کہ تو آپ مسلمان نہ ہوا
- اشارہ: مصرعہ ثانی کے ایک لفظ پر غور کریں۔
- (۸) میں بھی تالو سے لگا لیتا ہوں بس اپنی زباں گر کوئی سنتا نہیں ناسخ مری کو
- اشارہ: کسی پریشان حال کے بیان کو فریاد کہتے ہیں۔
- (۹) نام اہل حکومت کو کہاں حاصل ہوا خلق میں مشہور اک نوشیرواں عادل ہوا
- اشارہ: نیکی کی ایک 'ی' کو کم کر دیں۔
- (۱۰) ہر صبح وہی صبح ہے ، ہر شام وہی شام انسان پر ہے فقط انقلاب کا
- اشارہ: کسی پہیلی کو حل کرنے کے لیے دماغ کو زور لگانا پڑتا ہے۔
- (جوابات آئندہ ماہ کے شمارے میں ملاحظہ کریں)
- (سلسلہ 76 کے جوابات صفحہ 50 پر)